

CHAPTER ONE

THE EXALTED STATUS OF OUR BELOVED HOLY PROPHET MUHAMMAD (Sallallahu 'alayhi wa Sallam)

1. He is Nur (Sacred Light)

يَأْهَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

اے کتاب والو بیشک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے
ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں اور بہت سی معاف فرماتے ہیں بیشک
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب

O people of the Scripture! (Jews and Christians). Indeed Our (Prophetic) Messenger has come to you, expounding to you much of that which you used to hide from the Scripture, and forgiving much. Undoubtedly, there has come to you a Light from Allah and a clear Book (the Qur'an). (5:15)

2. Allah blesses him

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو!
ان پر درود اور خوب سلام بھیجو

Indeed, Allah and His angels shower blessings on the Prophet. O you who believe! Ask blessings on him and salute him with a worthy salutation. (33:56)

3. Mercy for all the worlds

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے

And We have sent you not except as a mercy for all the worlds. (21:107)

4. His name is Muhammad (Meaning the Most Praised One)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ

أَلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور اس پر ایمان لائے جو محمدؐ پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے اللہ نے انکی بُرائیاں اتار دیں اور انکی حالتیں سنوار دیں

And those who believe and do good deeds and believe in that which is revealed to Muhammad, and it is the Truth from their Lord, He (Allah) removes from them their ill-deeds and improves their state. (47:2)

5. Allah has exalted his Dhikr (Zikr) (remembrance)

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ

ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا
 اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا
 جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی
 اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کر دیا

Have We not expanded for you your breast?
 And removed from you your burden
 Which weighed down your back
 And exalted for you your dhikr (zikr) (remembrance). (94:1-4)

6. His exaltation on the Night of Mi'raj : his heavenly ascent

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾

پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا
 تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم

Then he drew near (to his Lord), then he came closer
 Till he was (distant) two bow-lengths or even nearer. (53:8-9)

7. His Station of Praise (Al-Maqam al-Mahmud)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

﴿٧٩﴾

اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب
 ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں

And some part of the night offer Tahajjud (Salah), an additional Prayer for you. Soon, your Lord will raise you to a Station of Praise (the highest position in Paradise). (17:79)

8. He is Shāhid (Witness, Present Beholder)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا

Surely, We have sent you as a witness, and a bearer of good news and a warner. (48:8)

9. He shall be a witness on the Day of Judgement

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجَعَلْنَا بِلِكِّ شَهِيدًا

عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَدُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انھیں میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے اور اے
محبوب! تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن
بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو

And the Day when We shall raise a witness from every community from amongst themselves that they may give evidence against them and (O Beloved Prophet) We shall bring you as a witness over them. And We have sent down the Book (the Qur'an) to you explaining everything clearly and as a guidance and mercy and good news for the Muslims. (16:89)

10. His name is mentioned together with the Name of Allah

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَنَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ابْتِغَاءِ الْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن
کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے
اور اگر منہ پھيرو تو جان لو کہ اللہ کو نہ تھکا سکو گے اور کافروں کو خوشخبری سناؤ
دردناک عذاب کی

And a proclamation from Allah and His (Prophetic) Messenger to mankind on the Day of the Greater Pilgrimage that Allah is free from obligation to the idolaters (concerning the treaties which they broke) and so is His (Prophetic) Messenger (free from obligation). So, if you (idolaters) repent, it is better for you, but if you turn away, then know that you cannot escape (from the punishment of) Allah. And give the news of a painful punishment to those who disbelieve. (9:3)

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٩٤﴾

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا اور
کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول،
ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے

And if they were pleased with what Allah and His (Prophetic) Messenger gave them and had said: “Allah is Sufficient for us. Allah will soon give us of His Bounty, and so will His (Prophetic) Messenger. Indeed, to Allah we lean”. (9:59)

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ
مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بیشک اللہ نے تمہاری نیکی
والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے

But if you seek Allah and His (Prophetic) Messenger and the Home of the Hereafter, then undoubtedly, Allah has kept prepared for the doers of good among you a great reward. (33:29)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْيَانِ ﴿٣٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ
لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٣١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

بیشک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں،

اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بیشک اللہ قوت والا عزت والا ہے،

تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے،

Surely, those who oppose Allah and His (Prophetic) Messenger, they will be among the lowest.

Allah has decreed: "Most surely, I will prevail, I and My (Prophetic) Messengers. Surely, Allah is All-Powerful, Almighty.

You will not find a people who believe in Allah and the Last Day (of Judgement) making friendship with those who oppose Allah and His (Prophetic) Messenger even though they be their fathers or their sons or their brothers or their kinsmen. These are they in whose hearts He (Allah) has inscribed Faith and has strengthened them with a spirit from Himself, and he will admit them to Gardens (in Paradise) beneath which streams flow to dwell therein (for ever). Allah is pleased with them and they are pleased with Him (as their Lord). They are the party of Allah. Surely, it is the party of Allah that is successful. (58:20-22)

فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے

So believe in Allah and His (Prophetic) Messenger and in the Light (the Qur'an) which We have sent down, and Allah is All-Aware of what you do. (64:8)

11. Allah appointed him to lead Muslims to Paradise

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان
و زمین آجائیں پرہیزگاروں کے لئے تیار کر رکھی ہے
وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور
لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں

And hasten towards forgiveness from your Lord and to a Paradise as wide as the heavens
and the earth, prepared for the pious.
Those who spend (in the Way of Allah) in prosperity and in hardship and who control
(their) anger and who pardon people. And Allah loves the doers of good. (3:133-134)

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدِّدْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣٣﴾

یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ اسے باغوں میں
لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی ہے بڑی کامیابی

Those are the limits set by Allah, and whoso obeys Allah and His (Prophetic) Messenger, He (Allah) will make him enter Gardens (in Paradise) underneath which rivers flow, to abide therein. And that is the great success. (4:13)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ
 دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ
 وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے
 یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے
 ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں
 دائمی نعمت ہے
 ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے

Those who believed and emigrated and fought with their wealth and their lives in the Path of Allah have a higher rank with Allah. And they are those who are the successful. Their Lord gives them good news of Mercy from Himself and of His Approval and of Gardens (of Paradise) wherein there is lasting bliss for them. They will abide therein forever. Surely, there is great reward with Allah. (9:20-22)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
 أَكْبَرُ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں اُن میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہی ہے بڑی مرا دپانی

Allah has promised to the believing (Muslim) men and the believing (Muslim) women Gardens (in Paradise) under which rivers flow, wherein they shall abide, and fine dwellings in the Gardens of 'Adn. But the Approval of Allah is the greatest (bliss). That is the supreme success. (9:72)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩٧﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
 وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾

بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دیگا
 اُن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں
 ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام
 ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں کو سراہا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا

Surely, those who believe and do good deeds, their Lord will guide them because of their Faith. Rivers will flow beneath them in the Gardens of Delight (in Paradise). Their prayer therein shall be: "Glory be to You, O Allah", and their greeting therein will be "Peace", and the end of their prayer will be: "All Praise be to Allah, the Lord of all the worlds". (10:9-10)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
 أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ
 الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
 مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی
 یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے
 داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے
 اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا
 وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں (اچھے کام کرنے
 والوں) کا

اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی
 پاکی بولتے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو
 جو سارے جہاں کا رب

And those who were in reverential awe of their Lord shall be escorted to Paradise in groups until when they reach there, and its gates are opened and its warders say to them: "Peace be upon you; you are good, so enter it (Paradise) to abide therein".

And they will say: "All Praise is due to Allah Who has fulfilled His Promise to us and made us inherit this land; (so) we may dwell in Paradise where we please, how excellent is the reward of the (righteous) workers".

And you shall see the angels surrounding the Throne (of Allah) on all sides, glorifying the praise of their Lord, and judgement shall be given between them with truth (justice), and it shall be said: "All praise is due to Allah, the Lord of the worlds". (39:73-75)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں
سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور

Surely, the pious will be in the midst of Gardens and a river (in Paradise).
In the Sitting of Truth before the King, Most Powerful (Allah). (54:54-55)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٥٦﴾

اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں

But for him who fears the standing (for Judgement) before his Lord, there are two
Paradises. (55:46)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرَانِكُمْ أَليَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے اُن کے
آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی
کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں تم ان میں ہمیشہ رہو یہی بڑی کامیابی ہے

On the Day when you shall see the believing (Muslim) men and the believing (Muslim) women, their light running before them and by their right (side) (and it will be said to them): “Good news for you this Day, of Gardens beneath which rivers flow (in Paradise), to abide therein. That is the supreme triumph”. (57:12)

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١١﴾

بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا
 پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لئے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا
 فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

Hasten to forgiveness from your Lord and (to) a Paradise whose width is as the width of the heavens and the earth prepared for those who believed in Allah and His (Prophetic) Messengers. That is the Grace of Allah (which) He bestows upon whom He wishes. And Allah is the Possessor of Great Grace. (57:21)